

# فہرست مضامین خطبات محمود

خطبات جمعہ ۳۰-۱۹۲۹ء

جلد ۱۲

صفحہ	موضوع خطبہ	تاریخ بیان فرمودہ	خطبہ نمبر
۳	نئے سال کے ساتھ نئی تبدیلی کی ضرورت	۱۱ جنوری ۱۹۲۹ء	۱
۵	میں نے غیر مبائعین کے متعلق کوئی سخت کلمہ نہیں کہا	۱۸ جنوری ۱۹۲۹ء	۲
۱۳	ہر ملک کی رعایا کو اپنے حکمران کی اطاعت کرنی چاہئے	۲۵ جنوری ۱۹۲۹ء	۳
۲۶	مذہب کے مقابلہ میں سیاسی امور کچھ حقیقت نہیں رکھتے	کیم فروری ۱۹۲۹ء	۴
۳۶	ہر احمدی دعوت الی اللہ کا عہد کرے	۸ فروری ۱۹۲۹ء	۵
	خدا تعالیٰ کی ذات سب خوبیوں کی جامع اور تمام عیوب سے منزہ ہے	۱۵ فروری ۱۹۲۹ء	۶
۴۷			
۵۵	رمضان المبارک کے فوائد	کیم مارچ ۱۹۲۹ء	۷
۶۳	رمضان کے آخری ایام میں خاص طور پر دعائیں کی جائیں	۸ مارچ ۱۹۲۹ء	۸
۶۹	کتب و اخبارات سلسلہ کی اشاعت	۲۲ مارچ ۱۹۲۹ء	۹
۷۸	جو چیز دین کے راستہ میں روک ہو اُسے دور کر دو	۲۹ مارچ ۱۹۲۹ء	۱۰
۸۶	مجلس مشاورت کے بعد کیا کرنا چاہئے	۵-اپریل ۱۹۲۹ء	۱۱
۹۱	اسہلی میں تم اور راجپال کا قتل	۱۲-اپریل ۱۹۲۹ء	۱۲
	بجٹ کو پورا کرنے کے ۲۲ جون کے جلسوں کو کامیاب بنانے اور الفضل کے خاتم التین نمبر کی توسیع اشاعت کیلئے	۲۶-اپریل ۱۹۲۹ء	۱۳
۱۰۱	پوری کوشش کی جائے		
۱۱۰	روحانی سزا سب سے سخت سزا ہے	۱۷ مئی ۱۹۲۹ء	۱۴

صفحہ	موضوع خطبہ	تاریخ بیان فرمودہ	خطبہ نمبر
۱۱۹	خدا تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ اور اسی سے مدد مانگو	۱۴ جون ۱۹۲۹ء	۱۵
۱۲۴	ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اعمال کی خوبصورتی ضروری ہے	۲۱ جون ۱۹۲۹ء	۱۶
	خدا کے احسانوں میں سے ایک بہت بڑا احسان نبی کی بعثت ہے	۲۸ جون ۱۹۲۹ء	۱۷
۱۲۷			
۱۳۳	اپنی مدد آپ کرو	۵ جولائی ۱۹۲۹ء	۱۸
۱۴۰	خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرو	۱۲ جولائی ۱۹۲۹ء	۱۹
۱۴۵	سورۃ فاتحہ کے حقائق و معارف	۱۹ جولائی ۱۹۲۹ء	۲۰
۱۵۲	مناظر قدرت سے صداقتِ اسلام	۲ اگست ۱۹۲۹ء	۲۱
۱۵۶	مومن کیلئے سب سے اہم چیز دل کی پاکیزگی ہے	۹ اگست ۱۹۲۹ء	۲۲
۱۶۰	بہائیت کی حقیقت	۱۶ اگست ۱۹۲۹ء	۲۳
۱۷۶	جو کام شروع ہو چکا ہے اسے مردانہ وار انجام کو پہنچاؤ	۳ اکتوبر ۱۹۲۹ء	۲۴
۱۸۵	اپنی خداداد استعدادوں سے دوسروں کو مستفید کرو	۱۱ اکتوبر ۱۹۲۹ء	۲۵
۱۹۲	جلسہ سالانہ اور عام مالی ضروریات پورا کرنے کا انتظام کیا جائے	۱۵ نومبر ۱۹۲۹ء	۲۶
۲۰۰	دیوانہ وار دعوت الی اللہ میں لگ جاؤ	۲۲ نومبر ۱۹۲۹ء	۲۷
۲۰۶	سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل کرو	۲۹ نومبر ۱۹۲۹ء	۲۸
۲۱۳	جلسہ سالانہ پر خود آؤ اور دوستوں کو ساتھ لاؤ	۶ دسمبر ۱۹۲۹ء	۲۹
۲۲۲	اپنی کسی حالت کو انتہائی نہ سمجھو	۱۳ دسمبر ۱۹۲۹ء	۳۰
۲۲۹	ٹھوکر سے بچنے کیلئے ایک لطیف نکتہ	۲۰ دسمبر ۱۹۲۹ء	۳۱
۲۳۸	آپس میں سنگے بھائیوں سے بھی زیادہ محبت رکھو	۲۷ دسمبر ۱۹۲۹ء	۳۲
۲۴۴	نئے سال کیلئے جماعت احمدیہ کا پروگرام	۳ جنوری ۱۹۳۰ء	۳۳
۲۴۹	پوری ہمت اور سرگرمی سے دعوت الی اللہ کرو	۱۰ جنوری ۱۹۳۰ء	۳۴
	نظام جماعت کے متعلق ضروری ہدایات خلیفہ سے ہر ایک احمدی کا براہ راست تعلق ہے	۱۷ جنوری ۱۹۳۰ء	۳۵
۲۵۷			

صفحہ	موضوع خطبہ	تاریخ بیان فرمودہ	خطبہ نمبر
۲۷۱	رمضان المبارک کی برکات	۳۱ جنوری ۱۹۳۰ء	۳۶
۲۷۸	اسلام کی تعلیمات پر پوری طرح عمل کرو	۷ فروری ۱۹۳۰ء	۳۷
۲۸۶	آزادی سے قبل تصفیہ حقوق ضروری ہے	۱۴ فروری ۱۹۳۰ء	۳۸
۲۹۵	سورۃ فاتحہ کی ایک آیت کے نکات	۲۱ فروری ۱۹۳۰ء	۳۹
۳۰۴	جمعة الوداع کی حقیقت	۲۸ فروری ۱۹۳۰ء	۴۰
۳۱۰	اجتلاء مؤمن کی ترقی کا موجب ہوتے ہیں	۷ مارچ ۱۹۳۰ء	۴۱
۳۱۷	ہر احمدی پوری سرگرمی سے دعوت الی اللہ کرے	۱۴ مارچ ۱۹۳۰ء	۴۲
۳۲۸	توکل کا حقیقی مفہوم	۲۱ مارچ ۱۹۳۰ء	۴۳
۳۳۷	خبیث الطبع لوگوں کی شرارتوں کا ذکر	۲۸ مارچ ۱۹۳۰ء	۴۴
۳۴۳	فتنہ انگیزوں کے متعلق گورنمنٹ کی خاموشی	۲-۱۲ اپریل ۱۹۳۰ء	۴۵
	بلا تحقیق مخالفت کرنے والے اخبارات اور مولویوں سے	۱۱-۱۲ اپریل ۱۹۳۰ء	۴۶
۳۵۶	خطاب بنالہ کے احمدیوں پر حملہ منافقین کے متعلق اعلان		
	ہمارے لئے امن کی ایک ہی صورت ہے کہ دنیا پر	۱۸-۱۲ اپریل ۱۹۳۰ء	۴۷
۳۶۹	غالب آجائیں		-
	بنالہ کے حادثہ قتل کے متعلق اظہار خیالات ان دنوں	۲۵ اپریل ۱۹۳۰ء	۴۸
۳۷۴	خصوصیت سے دعائیں کی جائیں		
	مصائب کے دور ہونے اور مصائب میں مبتلاء احباب	۲ مئی ۱۹۳۰ء	۴۹
۳۷۹	کیلئے دعائیں کی جائیں		
۳۹۲	مؤمن سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتا	۹ مئی ۱۹۳۰ء	۵۰
۴۰۰	حفاظت و اشاعت اسلام کیلئے پوری کوشش کرو	۱۶ مئی ۱۹۳۰ء	۵۱
۴۰۹	موجودہ سیاسی شورش سے علیحدگی کی وجہ	۲۳ مئی ۱۹۳۰ء	۵۲
۴۱۵	ہم سیاسیات میں کیوں دخل دیتے ہیں	۳۰ مئی ۱۹۳۰ء	۵۳
۴۲۹	کانگریس سے ہمارا اختلاف قانون شکنی کی وجہ سے ہے	۶ جون ۱۹۳۰ء	۵۴

صفحہ	موضوع خطبہ	تاریخ بیان فرمودہ	خطبہ نمبر
۴۴۶	حضرت مسیح موعودؑ کی تعلیم کے خلاف تفسیر کرنے کے خطرناک نتائج	۲۷ جون ۱۹۳۰ء	۵۵
۴۵۹	مسیح موعودؑ کی طرف آپ کی تعلیم کے خلاف کوئی بات منسوب نہ کی جائے	۴ جولائی ۱۹۳۰ء	۵۶
۴۶۳	احمدی عملی طور پر حصار کے مظلوم مسلمانوں کے مصائب میں مدد کریں	۸- اگست ۱۹۳۰ء	۵۷
۴۷۷	ہمارا سب سے پہلا فرض دعوت الی اللہ ہے	۱۵- اگست ۱۹۳۰ء	۵۸
۴۸۴	کیا ایک شہر میں مختلف مقامات پر جمعہ ہو سکتا ہے؟	۱۲ ستمبر ۱۹۳۰ء	۵۹
۴۸۷	اسلامی شعائر کی پابندی ضروری ہے	۳- اکتوبر ۱۹۳۰ء	۶۰
۴۹۵	سورۃ فاتحہ میں کامیابی کا گر	۱۰- اکتوبر ۱۹۳۰ء	۶۱
۵۰۲	بعض اہم امور کے متعلق خاص طور پر دعائیں کی جائیں	۷ نومبر ۱۹۳۰ء	۶۲
۵۰۹	سالانہ جلسہ خدا تعالیٰ کا ایک زبردست نشان ہے	۲۸ نومبر ۱۹۳۰ء	۶۳
۵۱۹	شفقت علی خلق اللہ کی تلقین	۵ دسمبر ۱۹۳۰ء	۶۴
۵۲۹	جماعت احمدیہ ضرور کامیاب ہوگی	۱۲ دسمبر ۱۹۳۰ء	۶۵
۵۳۹	جلسہ سالانہ کے انتظام کے متعلق چند ہدایات	۱۹ دسمبر ۱۹۳۰ء	۶۶
۵۴۴	کامیابی کے تین گر	۲۶ دسمبر ۱۹۳۰ء	۶۷